

Amazigh Ramdane At Mansour

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ^ط قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ^ط قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ^ط قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ ^ط إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ^ج وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

U mi inna Ibôahim: «a Mass iw! Ssenâat iyi amek tessidirev lmevgtin».

Inna: «day ur tuminev ara?» Inna: «xaîi, maca iwakken ad ithedden wul

iw». Inna: «ihi, îief kué igvav, awi ten id \$uôek, sinna, err, di yal i\$il,

amur segsen. Sinna, siwel asen, a d asen dumatu. Cfu ar Öebbi d Uohid,

d Uûwib».